

**THE BHAGELAS
CONTRACTS ACT.**

No. IX of 1353 Fasli.

Sections.

Preamble.

1. Short title, commencement and extent.
2. Repeal and saving.
3. Definitions.
4. Certain matters to be observed in execution of Bhagela contracts.
5. Rate of interest under Bhagela contract.
6. Agricultural labour contract shall become void and liability to labour extinguished on death of Bhagela or other executant.

فتاویٰ

معاہدات بھگیلگان

نشان (۹) ۱۳۵۳ء

دفعہ۔

۱۔ مختصر نام و تاریخ نفاذ و وسعت مقامی۔

۲۔ تفسیح و استثناء۔

۳۔ تعریفات۔

۴۔ معاہدات بھگیلگی کی تکمیل میں بعض امور کی

پابندی کا لزوم۔

۵۔ معاہدہ بھگیلگی کے تحت سود کی شرح۔

۶۔ بھگیلگی یا دیگر تکمیل کنندہ معاہدہ کے فوت

ہوتے پر زور عمی فردوری کا معاہدہ کا عدم اور

فردوری کرنے کی ذمہ داری ختم

ہو جائے گی۔

7. Bar of suit in respect of void Bhagela contract.
8. Bar of suits in respect of Bhagela contract except suits instituted for recovery of remuneration of work not performed without just cause.
9. Procedure for enforcement of provisions of sections 2, 4 and 6.
10. Civil Courts not to have jurisdiction.
11. Penalty for extracting labour on account of a terminated or void contract.
12. Penalty for making oral contract.
13. Exemption from Stamp Duty.
14. Appeal.
15. Power to make rules.

۷۔ کالعدم شدہ معاہدہ بھگیلا کی نسبت دعویٰ کی ممانعت۔

۸۔ معاہدہ بھگیلا کی نسبت دعویٰ کی ممانعت۔
بجز ان دعویٰ کے جو اس کام کے معاوضہ کے وصول کے لئے دائر کئے جائیں جو بلا وجہ معقول انجام نہ دیا گیا ہو۔

۹۔ احکام دفعات ۳ و ۴ و ۶ کے نفاذ کا طریقہ۔

۱۰۔ عدالت دیوانی کا عدم اختیار۔
سماعت۔

۱۱۔ ختم شدہ یا کالعدم شدہ معاہدہ کی بنا پر حبیبر کام لینے کی سزا۔

۱۲۔ زبانی معاہدہ کرنے کی سزا۔

۱۳۔ رسوم اسٹامپ سے استثناء۔

۱۴۔ مرقعہ۔

۱۵۔ قواعد بنانے کا اختیار۔

(Translation)

THE BHAGELAS
CONTRACTS ACT.

No. IX of 1353 F.

(Received the assent of H.E.H. the Nizam
through Firman dated 27th Moharrum
ulharam, 1363 Hijri, corresponding to 21st
Isfandar, 1353 Fasli).

WHEREAS it is expedient to
re-enact the provisions
Preamble. relating to Bhagelas con-
tracts; It is hereby
enacted as follows:—

1. This Act may be called the
Bhagelas Contracts Act
of 1353 F., and it shall
Short title commence and
extent. come into force in the
whole of H. E. H. the
Nizam's Dominions from
the date of its *publication in the
Jarida.

*Published in the Jarida dated 12th Fawardi,
1353 F.

تانون

معاہدات بھگیدگان

نشان (۹) ۱۳۵۳ھ

(چھپائی گاہ عالی حضرت بندگان عالی سے بدریغہ فرمان
۱۳۵۳ھ ۲۱ اسفندار
واجب لادعان مزینہ ۲۷ محرم الحرام ۱۳۶۳ھ)

(منظور ہوا۔)

مہسید۔ | ہر گاہ قرین مصلحت ہے کہ معاہدات
بھگیدگان کے متعلق احکام از سر نو مدون کئے جائیں۔
لہذا حسب ذیل حکم ہوتا ہے:۔

مختصر نام و تاریخ نفاذ و قیام۔ | تمام قانون معاہدات
وسعت مقامی۔
بھگیدگان بابتہ ۱۳۵۳ھ "موسوم ہو سکے گا اور
تاریخ اشاعت جسریدہ سے کل ممالک محروسہ

(Translation)

2. The Bhagelas Contracts Regulation of 1345 F., shall be deemed to be repealed as from the commencement of this Act, but in respect of every such Bhagela contract as may be in force on the commencement of the Bhagelas Contracts Regulation of 1345 F., any of the following matters which has not occurred prior to that shall be deemed, after the expiry of one year from the said date, to have occurred:-

(a) all the stipulated labour has been duly performed and every kind of obligation for the performance of labour or the supply of Bhagela has been discharged ;

(b) the advance, or principal and interest have been paid ;

(c) the debt and interest thereon have been settled.

3: In this Act unless there is anything repugnant in the Definitions. subject or context :—

قانون معاہدات بھگیلگان - نشان دو ہرک ۱۳۴۵

سرکار عالی میں نافذ ہوگا۔

تفہیم و استنثار - دفعہ ۲ - تاریخ نفاذ

قانون ہذا سے ضابطہ معاہدات بھگیلگان بائیں ۱۳۴۵
منسوخ تصور ہوگا لیکن ہر ایسے معاہدہ بھگیلگے متعلق

جو تاریخ نفاذ ضابطہ معاہدات بھگیلگان بائیں ۱۳۴۵

پر نافذ عمل ہوا مورثیل میں سے کسی امر کی نسبت جو

اس سے قبل وقوع میں نہ آچکا ہو تاریخ مذکور سے

ایک سال کا عرصہ منقضي ہونے پر یہ تصور کیا جائے گا

کہ وہ وقوع میں آچکا ہے۔

(الف) - جملہ کار مزدوری جس کا معاہدہ

کیا گیا تھا بطریق مناسب انجام پا چکا اور مزدوری

کی انجام دہی یا بھگیلگہ کی فراہمی سے متعلق ہر قسم کی ذمہ داری

سے سبکدوشی ہو چکی۔

(ب) - پیشگی یا زر اصل اور سودا داہر ہو چکا

(ج) - قرضہ اور اس کا سودیے باق

ہو چکا۔

تعریفات - دفعہ ۳ - قانون ہذا میں بجز

اس کے کہ مضمون یا سیاق عبارت اس کے

خلاف ہو۔

1353 F : HYD. ACT. IX] Bhagelas

(Translation)

(1) "advance" means an advance in cash or in kind or partly in cash and partly in kind and includes any transaction which is held under this Act to be substantially an advance;

(2) "executant" means a party to the Bhagela contract which undertakes that it, or some other person under its guardianship, shall work for wages ;

(3) "Bhagela" means a person who under the term of the Bhagela contract is responsible to work for wages ;

(4) "Bhagela transaction" means a transaction, written or oral, or partly written and partly oral, wherein the consideration for the labour by any person is an "advance" made or to be made to any person, and the interest on such "advance" or a debt due by any person and the interest on such debt and it includes any settlement which is held under this Act to be such a transaction but it shall not include the following cases :-

قانون معاہدات بھگیلاں - نشان ۹، ۱۹۵۳ء

(۱) "پیشگی" سے پیشگی بہ شکل نقد یا جنس یا

جزاً بہ شکل نقد اور جزاً بہ شکل جنس مراد ہوگی اور

اس میں ہر وہ معاملہ داخل ہوگا جو قانون ہدا کے

تحت فی نفسہ پیشگی قرار دیا جائے۔

(۲) "تکمیل کنندہ معاہدہ" سے معاہدہ

بھگیلا کا وہ فریق مراد ہوگا جو اس امر کی ذمہ داری

قبول کرے کہ وہ یا کوئی اور شخص جو اس کے

زیر ولایت ہو مزدوری سے کام کرے گا۔

(۳) "بھگیلا" سے وہ شخص مراد ہوگا جو

حسب شرائط معاہدہ بھگیلا مزدوری سے کام کرنے

کا ذمہ دار ہو۔

(۴) "معاہدہ بھگیلا" سے ایسا تحریری

یا زبانی یا جرداً تحریری اور سبباً زبانی معاہدہ مراد

ہوگا جس میں کسی شخص کے کار مزدوری کا بدلہ کوئی

"پیشگی" ہو جو کسی شخص کو دی گئی ہو یا دی جانے

والی ہو اور ایسی "پیشگی" کا سود یا کوئی قرضہ

ہو جو کسی شخص کے ذمہ واجب الادا ہو اور ایسے

قرضہ کا سود اور اس میں ہر وہ قرار داخل ہوگی

(Translation)

(a) a transaction for the execution of work entered into by a skilled workman ;

(b) a transaction for the performance of work, ultra vires of this Act ; or

(c) a transaction to supply a cart and cartman.

(5) "labour" means the work of agricultural labour and includes domestic service and labour whether performed indoor or outdoor.

4. (1) After the commencement of this Act, the following matters shall be observed at the time of execution of every Bhagela contract and in case of contravention such contract shall be deemed to be void :—
Certain matters to be observed in execution of Bhagela contracts.

قانون معاہدات بھگیلگان - نشان ۱۳۵۳ء

جو قانون ہذا کے تحت ایسا معاملہ قرار دیا جائے
مگر حسب ذیل صورتیں اس میں داخل نہ ہوں گی :-

(الف) - کام کی انجام دہی کا معاملہ جو
کسی فن دان کا ریگرنے کے کیا ہو۔

(ب) - قانون ہذا کی حدود و نفاذ کے
باہر کام کی انجام دہی کا معاملہ۔

(ج) - ہنڈی اور ہنڈی ران فراہم
کرنے کا معاملہ۔

(د) - "کار مزدوری" سے ذرا عتی مزدوری
کا کام مراد ہوگا اور اس میں گھریلو کمبری اور
محنت سبھی داخل ہوگی خواہ وہ اندرون خانہ کی جائے
یا بیرون خانہ۔

معاہدات بھگیلگی کی تکمیل میں بعض اوقات
امور کی پابندی کا لزوم - قانون ہذا کے

نفاذ کے بعد ہر معاہدہ بھگیلگی کی تکمیل کے وقت
امور ذیل کی پابندی لازمی ہوگی اور بصورت
خلاف ورزی ایسا معاہدہ کالعدم متصور ہوگا۔

(Translation)

(a) All the terms of the contract entered into between the parties shall be recorded in a document and it shall be entered in a register in the office of the village Patwari within such period and on payment of such fee to the Patwari as the Government may prescribe by rules under this Act ;

(b) The person making the advance or to whom the debt is due, shall deliver to the executant a certified copy of the document referred to in clause (a) at the time of execution of the document ;

(c) The period expressed or implied during which the labour is to be performed shall not in any case exceed one year. But the parties may terminate the contract before the expiry of the period of one year by executing another document. A copy of the subsequent document shall also be delivered in accordance with the provisions of clause (b) ;

(d) the contract shall contain no condition as regards performance

قانون معاہدات بھگیدگان۔ نشان (۹) ۱۳۵۳ء

(الف)۔ جملہ شرائط معاہدہ جو قریضین

میں طے ہوئے ہوں ایک دستاویز میں قلم بند کئے جائیں گے اور انہیں کو پٹواری موضع کے دفتر میں ایسی مدت کے اندر اور پٹواری کو اس قدر فیس ادا کرنے کے درجہ ضبط کر دیا جائے گا جو سرکار عالی بذریعہ قواعد تحت قانون ہذا مقرر کریں۔

(ب) پیشگی دہندہ یا وہ شخص جس کو

قرضہ ادا شدنی ہو دستاویز متذکرہ فقرہ (الف) کی ایک مصدقہ نقل تکمیل کنندہ معاہدہ کو بوقت تکمیل دستاویز حوالہ کرے گا۔

(ج)۔ مدت جس میں کار فروری انجام

پائے گا کسی صورت میں صریحاً یا معنی ایک سال سے زائد نہ ہوگی۔ مگر قریضین کو اختیار ہوگا کہ ایک سالہ مدت کے اختتام سے قبل دوسری دستاویز تکمیل کر کے معاہدہ کو ختم کر دیں۔ ایسی دوسری دستاویز کی نقل بھی حسب احکام فقرہ (ب) حوالہ کی جائے گی۔

(د)۔ معاہدہ میں بارہ سال سے کم عمر۔

of labour by a child under twelve years of age or for recovery from it of any advance or debt or interest which is the consideration or part of the consideration of the contract ;

(e) it shall be specified in the contract that on the expiry of the period of performance of labour, all liability in respect of an advance, debt or interest, which is the consideration or part of the consideration of the contract shall be extinguished.

(2) Notwithstanding anything contained in the Hyderabad Stamp Act, of 1331 F, a deed of Bhagela contract and its certified copy shall be exempt from stamp duty.

(3) The instrument of Bhagela contract which is void under subsection (1) shall not be admitted to registration under the Hyderabad Registration of Documents Act of 1328 F.

5. The interest under a Bhagela contract shall not be recovered at a rate of simple interest exceeding six per cent per annum.

Rate of interest under Bhagela contract.

قانون معاہدات بھگیلہ کان - نشان (۹) ۱۳۵۳ء
طفل سے فروری کرنے یا اس سے کوئی پیشگی یا
قرضہ یا سود جو معاہدہ کا بدلہ یا جزیو بدل ہو وصول
کرنے کے متعلق کوئی شرط درج نہ کی جائے گی۔
(۵۵) - معاہدہ میں اس کی صراحت کی جائے گی
کہ کار فروری کی انجام دہی کی مدت کے اختتام
پر ایسی پیشگی یا قرضہ یا سود سے متعلق جو معاہدہ کا بدلہ
یا جزیو بدل ہو تمام ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔

(۱۶) - قانون اسٹامپ سرکار عالی بابت
۱۳۳۱ء کے کسی حکم کے باوجود دستاویز معاہدہ
بھگیلہ اور اس کی مصدقہ نقل رسوم اسٹامپ سے
مستثنیٰ ہوگی۔

(۳) - ضمن (۱) کے تحت جو دستاویز معاہدہ
بھگیلہ کا لہذا ہو اس کو قانون رجسٹری دستاویز
ممالک محروسہ سرکار عالی بابت ۱۳۲۸ء کے تحت
بغرض رجسٹری قبول نہیں کیا جائے گا۔

معاہدہ بھگیلہ کے تحت سود کی شرح - اوقاف - معاہدہ
بھگیلہ کے تحت سود فی صد چھ روپیہ سالانہ سود ساوہ
سے زائد شرح سے وصول نہ کیا جائے گا۔

(Translation)

6. A Bhagela contract shall become void on the death of the Bhagela or of the executant even though it was executed under the Bhagela contract Regulation of 1345 F., and notwithstanding anything contained in the Bhagela Contract or in any other law, no liability for performance or non-performance of labour shall lie with the estate of the deceased or with any of his heirs nor shall any suit be instituted to satisfy such liability.

7. Notwithstanding anything contained in the Hyderabad Contract Act of 1316 F. when a Bhagela contract is void under section 4 or otherwise, or becomes void under section 6, no suit shall lie for restoration of any advantage or compensation thereof received by the executant or, in particular, for the recovery of any advance, debt or interest which is the consideration or part of the consideration of the contract.

قانون معاہدات بھگیلگان۔ نٹان (۹) ۱۳۵۳ء

بھگیلہ یا دیگر تکمیل کنندہ معاہدہ کے قوت پر پوری مزدوری کا معاہدہ کا عدم اور مزدوری کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔
 دفعہ ۶ بھگیلہ یا تکمیل کنندہ معاہدہ کے قوت ہو جانے پر معاہدہ بھگیلہ خواہ

وہ بموجب ضابطہ معاہدات بھگیلگان یا بابتہ ۱۳۵۳ء عمل میں آیا ہو گا عدم ہو جائے گا اور باوجود اس کے کہ معاہدہ بھگیلہ میں یا کسی اور قانون میں کوئی اور حکم ہو گا مزدوری کی انجام دہی کے لئے یا عدم انجام دہی کی یا بابتہ کوئی ذمہ داری متوفی کی جائے اور نہ یا اس کے کسی وارث پر عائد نہ ہو سکے گی اور نہ ایسی ذمہ داری کی پابجائی کرانے کے لئے کوئی دعویٰ دائر کیا جاسکے گا۔

دفعہ ۷ کا عدم شدہ معاہدہ بھگیلہ کی نسبت دعویٰ کی ممانعت۔ اس کے قانون

معاہدہ مالک محروسہ سرکار عالی یا بابتہ ۱۳۱۶ء میں کوئی اور حکم ہو جب کوئی معاہدہ بھگیلہ دفعہ ۶ کے تحت یا کسی اور طور پر کا عدم ہو یا دفعہ ۶ کے تحت کا عدم ہو جائے تو تکمیل کنندہ معاہدہ کو حاصل شدہ کسی فائدہ کی واپسی یا اس کے معاوضہ کے متعلق یا بالخصوص کسی پیشگی یا قرضہ یا سود کے وصول کے

(Translation)

8. (1) Except in the case referred to in this section, no suit shall lie against the executant of a Bhagela contract or any other person for non-performance of labour, or in respect of any advance, debt or interest which is the consideration or part of the consideration of the contract.

Bar of suits in respect of Bhagela contract except suits instituted for recovery of remuneration of work not performed without just cause.

(2) If during the period of valid Bhagela contract, the Bhagela without just cause withholds the stipulated labour, then, subject to the provisions contained in section 5, an application may be made against the executant within three months after the termination of the period of contract to the Tahsildar of the taluk in which the executant resides, for the recovery of the actual remuneration of the work so withheld or not performed, but on such application the Tahsildar shall not decree a sum exceeding the principal of the advance found to be due at that time together with simple interest at a rate not exceeding six per cent per annum. The decree passed by the Tahsildar shall, for all purposes, be deemed to be the decree of a competent Civil Court.

تانون معاہدات بھگیلہ گان۔ نشان (۹) ۱۳۵۳ء
متعلق جو معاہدہ کا بدل یا جز و بدل ہو کوئی دعویٰ
نہ ہو سکے گا۔

معاہدہ بھگیلہ کی نسبت دعاوی کی
مانعت بجز ان دعاوی کے جو
اس کام کے معاہدہ کے وصول
کے لئے دائر کئے جائیں جو بلاوجہ
موقوف انجام نہ دیا گیا ہو۔
دعویٰ کسی معاہدہ

بھگیلہ کے تکمیل کنندہ یا کسی اور شخص کے خلاف
کار مزدوری کی عدم انجام دہی کے متعلق یا کسی پیشگی
یا قرضہ یا سود کے متعلق جو معاہدہ کا بدل یا جز و بدل
ہو دائر نہ ہو سکے گا۔

(۲)۔ اگر کسی جائز معاہدہ بھگیلہ کی دوران
مدت میں بھگیلہ بلاوجہ موقوف مہرودہ کار مزدوری
بند کر دے تو بہ متابعت احکام مندرجہ ذیل
ایسے موقوف کردہ یا عنبر انجام دادہ کام کا حقیقی
معاہدہ وصول کرنے کے لئے مدت معاہدہ ختم
ہونے کے بعد اندرون تین ماہ تکمیل کنندہ
معاہدہ کے خلاف اس تعلقہ کے تحصیلدار کے
پاس جس میں تکمیل کنندہ معاہدہ رہتا ہو درخواست
پیش کی جاسکے گی لیکن ایسی درخواست پختہ

(Translation)

9. If the provisions of section * [2], 4 or 6 are contravened, a Bhagela may apply for relief to the Tahsildar of the taluq in which he resides. If the Tahsildar, after giving a hearing to the parties, is satisfied that the contract has terminated under section * [2] or that it is void under section 4 or Section 6, he may pass an order accordingly and by such order the contract shall terminate.

10. (1) No Civil Court shall have power to entertain a suit or proceeding in respect of a transaction for the disposal of which power

*Substituted by Act No. XV of 1357 F.

قانون معاہدات بھگیلگان - نشان (۹) ۱۳۵۳ء
 اُس قدر قسم کی ڈگری صادر نہ کرے گا جو پیشگی کے
 ذرا اہل سے جو اس وقت واجب الادا برآمد ہو
 بشمول سود سادہ جس کی شرح چھ فیصد سالانہ سے
 زیادہ ہو متجاوز نہ ہو۔ تحصیلدار کی صادر کردہ
 ڈگری تمام اغراض کے لئے عدالت دیوانی مجاز
 کی ڈگری تصور ہوگی۔

احکام دفعات ۴، ۶ اور ۲ کے | دفعہ ۹ - اگر
 نفاذ کا طریقہ - | احکام دفعات [۲] -
 ۴ یا ۶ کی خلاف ورزی کی جائے تو بھگیلہ اس
 تعلقہ کے تحصیلدار کے پاس جس میں کہ وہ رہتا
 ہو وادرسی کے لئے درخواست پیش کر سکے گا۔
 اگر فریقین کے عذرات سماعت کرنے کے بعد
 تحصیلدار مطمئن ہو جائے کہ دفعہ [۲] کے تحت
 معاہدہ ختم ہو چکا ہے یا یہ کہ دفعہ ۴ یا ۶ کے
 تحت کالعدم ہے تو وہ حسبہ حکم صادر کر سکے گا
 اور ایسے حکم سے معاہدہ ختم ہو جائے گا۔

عدالت دیوانی کا عدم اختیار سنا۔ | دفعہ ۱۰ - (۱) -
 کسی عدالت دیوانی کو اختیار نہ ہوگا کہ کسی ایسے

Bhagelas [1353 F : HYD. ACT IX
(Translation)

vests in a Tahsildar under sections 8 and 9 of this Act and no act of a Tahsildar done in exercise of powers conferred by this Act shall be called in question in a Civil Court.

(2) If a case or proceeding is pending decision in any Civil Court at the commencement of this Act or is instituted after the commencement of this Act for the recovery of an advance or debt stated in the contract under section * [2], 4 or 6 and the defendant produces a certificate of the Tahsildar to the effect that an application in respect of the said transaction has been lodged before the Tahsildar under this Act, the Court shall adjourn and transfer the case or proceeding to the Tahsildar and the Tahsildar shall dispose of it in accordance with this Act.

* Amended by Act No. XV of 1357 F.

قانون معاہدات بھگیدگان۔ نشان (۹) ۱۳۵۳ء
معاملہ کے متعلق جس کے تصفیہ کا اختیار قانون ہذا کے
دفعات ۸ و ۹ کے تحت تحصیلدار کو حاصل ہے کوئی
دعوئی یا کارروائی مستعمل کرے اور تحصیلدار کے
کسی فعل کو جو اس قانون ہذا کے عطا کردہ اختیارات
کے استعمال میں کیا گیا ہو عدالت دیوانی میں زیر
سمت نہ لایا جاسکے گا۔

(۲)۔ اگر ذمہ دار یا یا ۶ یا ۴ کے تحت کسی پیشگی
یا قرضہ مندرجہ معاہدہ کے وصول کے لئے کوئی
مقدمہ یا کارروائی کسی عدالت دیوانی میں قانون ہذا
کے نفاذ کے وقت زیر تصفیہ ہو یا قانون ہذا
کے نفاذ کے بعد دائر کیا جائے اور مدعی علیہ
تحصیلدار کا صداقت نامہ اس امر کے متعلق پیش
کرے کہ معاملہ مذکور کی نسبت قانون ہذا کے تحت
تحصیلدار کے پاس درخواست دائر ہو چکی ہے
تو عدالت پر لازم ہوگا کہ مقدمہ یا کارروائی کو ملتوی
کر کے تحصیلدار کے پاس منتقل کر دے۔ اور
تحصیلدار اس کا تصفیہ بہ منابعت قانون ہذا
کرے گا۔

۵۔ ترمیم بموجب قانون نشان (۱۵) ۱۳۵۳ء

(3) If in the opinion of the Tahsildar, the transaction produced is not a Bhagela contract, he shall return the case to the Court and the Court shall decide it on merit.

11. If a Bhagela is forced to perform labour or to pay something in respect of a contract which has been terminated by order under section 9, he may apply to the Tahsildar who may, after making necessary enquiry and giving a hearing to the offender, punish him with fine which may extend to twenty five rupees which shall be recoverable as arrear of land revenue.

12. If a village Patwari finds that an employer has not executed a contract with a Bhagela or his guardian under Section 4 and is taking work from the Bhagela without such contract, he shall give a notice to the said employer to execute a valid contract in writing within fifteen days.

قانون معاہدات بھگیلاں - نشان (۹) ۱۳۵۳

(۳) - اگر تحصیلدار کی رائے میں معاملہ پیش کر دیا گیا ہے تو وہ معاہدہ بھگیلا نہ ہو تو اس پر لازم ہو گا کہ مقدمہ کو عدالت میں واپس کر دے اور عدالت اس کا تصفیہ بلحاظ روٹا د کرے گی۔

ختم شدہ یا کالعدم شدہ معاہدہ دفعہ ۱۱ - اگر کسی بھگیلا کو کاروبار کی بنا پر جبراً کام لینے کی سزا دی جائے اور وہ معاہدہ کی نسبت جو ذمہ داری کے تحت مکمل ختم کر دیا گیا ہو کچھ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہ تحصیلدار کے پاس درخواست پیش کرے گا جس کو اختیار ہو گا کہ مرکب جرم کو ضروری تحقیقات اور اس کے عذرات کی سماعت کے بعد سزا ماننے کی سزا دے جس کی مقدار پچیس روپیہ تک ہو سکے گی اور جو مثل بقایا سے زر مالگزار ہی اور امنی قابل وصول ہو گا۔

زبانی معاہدہ کرنے کی سزا - دفعہ ۱۲ - اگر پٹواری موضع کو معلوم ہو کہ کسی آجر نے کسی بھگیلا یا اس کے ولی کے ساتھ حسب دفعہ ۴ معاہدہ نہیں کیا ہے اور بغیر اسے معاہدہ کے بھگیلا سے

Bhagelas [1353 F: HYD. ACT IX
(Transaltion)

If the employer does not comply, the Patwari shall report to the Tahsildar who may after making necessary enquiry and giving a hearing to the employer, punish the employer, in case a contravention of this Act is proved, with fine which may extend to twenty five rupees which shall be recoverable as arrear of land revenue.

13. A contract made and every application filed by a Bhagela under this Act shall be exempt from stamp duty.

14. An appeal shall lie from every Appeal. decision of a Tahsildar with the Second Taluqdar whose decision shall be final.

قانون معاہدات بھگیلگان۔ نشان (۹) ۱۳۵۳ء

کام لے رہا ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ آجر بندگور کو اطلاع دے کہ وہ پندرہ دن کے اندر جائنر تحریری معاہدہ کی تکمیل کر لے۔ اگر آجر تکمیل نہ کرے تو پٹواری تحصیلدار کے پاس رپورٹ پیش کرے گا جس کو اختیار ہوگا کہ ضروری تحقیقات اور آجر کے غدرات کی سماعت کے بعد خلاف ورزی قانون ثابت ہونے پر آجر کو جرمانہ کی سزا سے جس کی مقدار چھیس روپیہ تک ہو سکے گی جو مثل یقایا سے زرہ مالگزار کی اراضی قابل وصول ہوگا۔

رسوم اسٹامپ سے استثناء۔ دفعہ ۱۳۔
قانون ہذا کے تحت مرتبہ معاہدہ اور بھگیلہ کی جانب سے پیش شدہ ہر درخواست رسوم اسٹامپ سے مستثنیٰ ہوگی۔

مراغہ۔ - - - - -
تحصیلدار کے ہر فیصلہ کی ناراضگی سے دوم تعلقت دار کے پاس مراغہ ہونے کا۔ جس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔

15. The Government may make rules to carry out the purposes of this Act.
Power to make rules.

قانون معاہدات بھگیگان۔ نشان (۹) ۱۳۵۳ء
قواعد بنانے کا اختیار۔ دفعہ ۱۵۔
سرکار عالی کو اختیار ہوگا کہ قانون ہذا کے
اغراض کی تکمیل کے لئے قواعد مرتب کریں۔